



نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک شخص کو حاضر کیا گیا، جس نے شراب پی رکھی تھی، آپ ﷺ نے اسے کھجور کی ٹہنی سے لگ بھگ چالیس کوڑے مارے

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کی خدمت میں ایک شخص کو حاضر کیا گیا، جس نے شراب پی رکھی تھی، آپ ﷺ نے اسے کھجور کی ٹہنی سے لگ بھگ چالیس کوڑے مارے
[صحیح] [متفق علیہ]

نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں ایک شخص نے شراب پی، تو آپ ﷺ نے اسے کھجور کی ایک ٹہنی سے لگ بھگ چالیس کوڑے لگوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں نبی کریم ﷺ کی طرح شرابی کو چالیس کوڑے لگوائے لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا، جنگی فتوحات کی بہتات ہوئی اور مسلمانوں کا دیگر قوموں کے ساتھ ملنا جلنا شروع ہوا، تو لوگ بکثرت شراب پینے لگے لہذا انہوں نے اہل علم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشورہ طلب کیا کہ شرابیوں پر کون سی حد نافذ کی جائے کہ ان کے لیے سخت تنبیہ کا باعث ہو، جیسا کہ اس جیسے دیگر اہم امور اور اجتہادی مسائل میں عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار ہوا کرنا تھا کیونکہ ان کے دور خلافت میں شراب پینے والے افراد کی بہتات ہو گئی تھی، چنانچہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ: حدود میں سب سے ہلکی حد اسی (80) کوڑے مقرر کر دیں، جو بہتان تراشی کرنے والے کی حد ہے (انہی کے مشورہ کے مطابق) عمر رضی اللہ عنہ نے اس حد کو اسی کوڑوں میں تبدیل فرمادیا یہ اضافہ دراصل تعزیر ہے اور امام کے اختیار کی چیز ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/2946>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

